



PRESS RELEASE

For immediate release

October 8, 2021

SECP witnesses 20% growth in new incorporations in September 2021

ISLAMABAD, October 8, 2021: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) registered 2,223 new companies in September 2021, up by 20% over the same period in the preceding year. Total capitalization (paid-up capital) of the new companies stood at Rs. 2.8 billion and the total number of registered companies has risen to 1,52,089.

Private Limited companies accounted for 65% of the new incorporations, whereas 32% were registered as single-member. Remaining 3% were registered as public unlisted companies, not for profit associations, trade organizations and limited liability partnership (LLP). Approximately 99% companies were registered online and 210 foreign users were registered from overseas.

Sector-wise, construction & real estate sector took the lead with the incorporation of (377) companies, followed by information technology (316), trading (310), services (209), food & beverages sector (85), textile (74), ecommerce (74), education (66), market & development (54), corporate agricultural farming (53), pharmaceutical (52), engineering (46), healthcare (45), tourism (43), auto & allied (38), chemical (38), transport (37), mining & quarrying (3) and power generation (30), paper & board (27), logging (26), cosmetics & toiletries (23), fuel & energy (19), cables & electric goods (18), communications (17), steel & allied (16), and wood products (16) and broadcasting & telecasting (15) and 69 companies were registered in other sectors.

Foreign investment has been reported in 61 new companies, reporting foreign investors from Australia, Canada, China, Dominican Republic, Germany, Hong Kong, Iraq, Jordan, Korea South, Paraguay, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Spain, Switzerland, Taiwan, Turkey, UAE, UK, the USA and Zambia.

ایس ای سی پی میں 2,223 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ؛ 20 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا

اسلام آباد (اکتوبر 8): سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے ستمبر 2021 میں دو ہزار دو سو ستائیس نئی کمپنیاں رجسٹر کیں جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی ماہ میں ہونے والی کمپنی رجسٹریشن کے مقابلہ میں 20 فی صد اضافے کو ظاہر کرتی ہیں۔ نئی رجسٹر ہونے والی کمپنیوں کا مجموعی اد شدہ سرمایہ کی حد 2.8 ارب روپے ہے۔ نئی رجسٹریشن کے بعد کمپنیوں کی کل تعداد 1,52,089 ہو گئی ہے۔

ستمبر میں رجسٹر ہونے والی کمپنیوں میں 65 فیصد کمپنیاں پرائیویٹ لمیٹڈ، 32 فیصد سنگل ممبر کمپنیاں جبکہ بقیہ تین فیصد کمپنیوں میں پبلک ان لسٹڈ، غیر منافع بخش ادارے اور لمیٹڈ لائیبلٹی پارٹنرشپ شامل ہیں۔ اس ماہ تقریباً 99 فیصد کمپنیاں آن لائن رجسٹر ہوئیں جن میں سے 210 کمپنیاں بیرون ملک سے رجسٹرڈ کی گئیں۔

سب سے زیادہ کمپنیاں ریل سٹیٹ اور تعمیرات کے شعبے میں رجسٹرڈ ہوئیں جن کی تعداد 377 ہے۔ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں 316، تجارت کے شعبے میں 310، خدمات میں 209، فوڈ اینڈ بیورٹس میں 85، ٹیکسٹائل اور ای کامرس میں 74، ایجوکیشن میں 66، مارکیٹ اینڈ ڈیلوپمنٹ 54، کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ 53، ادویہ سازی میں 52، نجھتیرنگ میں 46، ہیلتھ کیئر میں 45، سیاحت میں 43، آٹو اینڈ لائیڈ اور کیمیکل میں 38، ٹرانسپورٹ میں 37، کان کنی اور بجلی کی پیداوار میں 30، پیپر اینڈ بورڈ میں 27، لاگنگ (کندہ کشی) 26، کاسمیٹک اینڈ ٹائلریٹیز میں 23، فیول اینڈ انرجی میں 19، کیبلز اینڈ الیکٹرک گڈز 18، کمیونیکیشن میں 17، سٹیل اینڈ لائیڈ اور ووڈ پراڈکٹس 16، براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ 15، جبکہ بقیہ 69 کمپنیاں دیگر شعبوں میں رجسٹر ہوئیں۔

علاوہ ازیں اس ماہ 61 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی۔ ان کمپنیوں کے سرمایہ کاروں کا تعلق آسٹریلیا، کینیڈا، چین، ڈومینیکن ریپبلک، جرمنی، ہانگ کانگ، عراق، اردن، جنوبی کوریا، پیراگوئے، قطر، روس، سودی عرب، سپین، سوئزرلینڈ، تائیوان، ترکی، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ اور زامبیا سے ہے۔